

## تفریح کا اسلامی تصور اور اس کی شرعی حدود

محمد عبدالعلیٰ اچنڈی\*

تفریح کا مفہوم:

تفریح فرح سے نکلا ہے، فرح کی تعریف کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

الفرح انشار الحصر بلذة عاجلة واکثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية (۱)

”الفرح کے معنی کسی فوری یادنیوی لذت پر انشار صدر کے ہیں، عموماً اس کا اطلاق جسمانی لذتوں پر خوش ہونے کے معنی میں ہوتا ہے“

سی طرح امام قرطبی لکھتے ہیں:

والفرح لذة في القلب بدارك المحبوب (۲)

”محبوب چیز کے پایینے سے جو قلی لذت نصیب ہوتی ہے، اس کا نام فرحت اور خوشی ہے“

یہ فرحت اگر اتراء ہٹک پہنچ جائے تو شرعاً منوع ہے، قرآن حکیم میں فرمایا گیا لافرخ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحُبُّ الْفَرِحِينَ (۳) ”مَتَ اتَّرَأَ وَكَيْوَنَ اللَّهُ اتَّرَانَ وَالوَوْنَ كَوْپَسِنْدِنْهِيْسَ كَرَتاً“ اور اگر یہ فرحت اتراء ہٹک نہ پہنچے، بلکہ محض قلبی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس پر منی ہو تو عند اللہ پسندیدہ، مستحسن اور مطلوب ہے، چنانچہ ایک جگہ حکم دیا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وِرَحْمَتِهِ فِيدِ لِكَ فَلِيفَرْحُونَا (۴) ”آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہے تو اس پر خوش ہونا چاہئے“

تفریح کا اسلامی تصور اور اس کی ضرورت و اہمیت:

ہر انسان اس دنیا میں بحیثیت ایک انسان کے، کچھ ایسی ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے جنہیں پورا کرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے، چنانچہ اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، سردی گرمی ستاتی ہے تو مکان بناتا ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے تو صرف مختلف کی طرف مائل ہوتا ہے، کام کا جس سے تنک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ماحول سے اکتا ہے تو سرت اگلیز تفریحات کا طلب گار ہوتا ہے، تشنگی روح تنگ کرتی ہے تو تہائی کا

\* ایسوی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ، پاکستان

خواہاں اور عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ بھوک، پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و عبادات یہ سب فطری تقاضے ہیں، جن کی سمجھیل ہی صحیح اور متوازن زندگی کا ذریعہ ہے، لہذا ان تقاضوں کو پورانہ کرتا سخت ظلم و زیادتی ہونے کے علاوہ خود فطرت سے بھی بڑنا ہے، اس بارے میں مولانا گوہر حسن لکھتے ہیں:

”چونکہ جسم روح کی سواری ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے، جس کے بغیر زندگی بحال نہیں رہ سکتی، اس لئے اسلام نے جسم کے ضروری اور طبعی تقاضے پورے کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ان کو جسم کا حق قرار دیا ہے، جس طرح کہ کھانا، پینا، ہونا، کپڑے پہننا، گرمی اور سردی سے بچنا، جنسی ضرورت پوری کرنا، علاج اور دوائیاں اور دوسری ضروریات اور سہولیات جسمانی تقاضے ہیں، جن کو پورا کئے بغیر جسمانی صحت اور قوت بحال نہیں رہ سکتی، اسی طرح کھیل و تفریح بھی انسانی جسم کی صحت و قوت کو بحال رکھنے اور طبیعت کے نشاط کے لئے اپنے اندر رافادیت کے بہت سے پہلو رکھتی ہے، اس لئے اسلام نے کھلیوں اور صحت مند تفریجی پروگراموں کی اجازت دی ہے۔“ (۵)

#### اسی طرح یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”اسلام واقعیت پسندانہ دین ہے، وہ انسان کو وہم و خیال کے دائرہ میں بند کر کے نہیں رکھتا، بلکہ اسی زمین پر جو حقائق و واقعات کی زمین ہے، رہنا سکھاتا ہے، وہ لوگوں کو آسمان میں پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا، بلکہ کھانا کھانے والے اور بازار میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں پر یہ فرض گراں عائد نہیں کیا ہے کہ اس کی ہربات ذکر اور ہر خاموشی فکر ہو، سماught وہ صرف قرآن کی کریں اور اپنے تمام فارغ اوقات مسجد میں گزاریں، بلکہ وہ ان کی فطرت اور ان کے طبائع کا پورا پورا لحاظ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اس طور سے فرمائی ہے کہ جس طرح کھانا اور پینا تقاضائے فطرت ہے، اسی طرح شاداں و فرحاں رہنا اور ہنسنا اور کھلینا بھی اس کی سرشت میں داخل ہے۔“ (۶)

#### قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے:

أَرْسَلْنَا مَعَنَا غَدًا يَرْثِيْعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (۷)

”(یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا)“ تھیج اس (یوسف علیہ السلام) کو ہمارے ساتھ کل کو خوب کھائے، اور کھلیے اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں۔“

اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے اور کھلینے کو دنے کی اجازت مانگی گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی صفائح نہیں فرمائی، فتحاء نے بیہاں سے یہ مسئلہ کالا

ہے کہ سیر و تفریح جائز کھیل ہیں، اور مطلق کھیل اور تفریح اگر اس کے اندر کوئی جزء مخصوصیت کا نہ ہو، تو بالکل جائز ہے، جیسا کہ مولانا عاشق الہی لکھتے ہیں:

”حضرات علماء کرام نے اس سے یہ مستبط کیا ہے کہ سیر و تفریح اور کھیل کو د جو حدود شرعیہ کے اندر ہو جائز اور مباح ہے، بچوں کو اس کا کھیلنا کھلانا جائز ہے اور بالغین بھی آپس میں دوڑ لگا سکتے ہیں، بلکہ خیر کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ہے۔“ (۸)

علامہ جاصح لکھتے ہیں:

واللَّعْبُ هُوَ الْفَعْلُ الْمَقْصُودُ بِهِ التَّفَرِّجُ وَالرَّاحَةُ مِنْ غَيْرِ عَاقِبَةٍ لِهِ مَحْمُودَةٌ وَلَا قَصْدٌ فِيهِ لِفَاعِلِهِ الْاِحْصَوْلُ  
اللَّهُو وَالْفَرَحُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مِبَاحًا وَهُوَ مَالًا اثْمٌ فِيهِ كَنْحُو مِلاعِبُهُ الرَّجُلُ اهْلُهُ وَرَكْوَبُهُ فِرْسَهُ  
لِلتَّطَرُّبِ وَالتَّفَرِّجِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَحْظُورًا وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْلَّعْبَ الَّذِي ذُكِرَهُ كَانَ  
مِبَاحًا لَوْلَا ذَلِكَ لَأَنَّكَرَهُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ۔“ (۹)

”لَعْبٌ (کھیل) اس عمل کو کہتے ہیں جس میں تفریح مقصود ہوتی ہے اور اس کے ذریعے راحت حاصل کی جاتی ہے، اس سلسلے میں کسی اچھے انجام کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی اس فعل کے کرنے والے کے سامنے تفریح اور تماشا کے حصول کے سوا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، اس بنا پر لَعْبُ کی بعض صورتیں مباح اور جائز ہوتی ہیں، یعنی ان کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مثلاً: ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور چھیٹر چھاڑ، اسی طرح طرب و تفریح کے لئے گھوڑا سواری وغیرہ، لَعْبُ کی بعض صورتیں منوع اور حرام ہوتی ہیں، آیت میں یہ دلالت موجود ہے کہ جس لَعْبَ کا برادران یوسف نے ذکر کیا تھا وہ مباح اور جائز تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر انہیں ٹوکتے اور اس سے انہیں روکتے۔“

امام رازی لکھتے ہیں:

”جائز ان یکون المراد من اللَّعْبِ الْاِقْدَامِ عَلَى الْمِبَاحَاتِ لَا جَلَّ اَنْشِرَاحَ الصَّدَرِ۔“ (۱۰) کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجابر فهلا بکرا تلاعbehao تلاعبك۔ (۱۱)

”جائز ہے کہ لَعْبٌ (کھیل) سے مراد مباح کھیلوں پر اقدام ہو طبیعت کو خوشی اور راحت پہنچانے کے لئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ”کیوں کنواری سے نکاح نہیں کیا، تم اسے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتا۔“

مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”بعض مفسرین نے (اب) کی تفسیر مسابقت و تیر اندازی سے کی ہے جس سے مقصود اعداد قوت لقتال العدو ہے اس کو لعب باعتبار صورت کہہ دیا ورنہ لعب حقیقی کی کہ عبث ہے، یعقوب علیہ السلام اجازت نہ دیتے، میں کہتا ہوں کہ لعب حقیقی بھی جو کہ مباح ہو، جب اس میں یہ مصلحت ہو کہ اس سے نشاط ہوگا جو تحصیل علم و تکمیل عمل میں معین ہوگا، عبث نہیں“。(۱۲)

### تغیری تفریحات اور ان کی افادیت:

ایسی تغیری تفریح جس سے جسم و روح کو راحت پہنچے، وہ اسلام میں نہ صرف جائز بلکہ شرعاً ایک حد تک مستحسن و مطلوب ہے، تاکہ اس تفریح اور کھلیل کو دے کے ذریعے جسم اور روح کا کسل اور طبعی ملال دور ہو کر دوبارہ طبیعت میں نشاط، چستی، حوصلہ، ہمت اور امنگ پیدا ہو، اور انسان ایک بار پھر پوری خوش دلی کے ساتھ زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف متوجہ ہو سکے، جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”تفریح کی بہت سی قسمیں اور کھلیل کے بہت سے طور طریقے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیا ہے، تاکہ ان کے بار خاطر کو ہلکا کرنے اور تفریح طبع کا سامان ہو، یہ کھلیل ایسے ہیں جو عبادات اور واجبات کی ادائیگی پر بلکہ ان میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لینے پر آمادہ کرتے ہیں، نیز ان ورزشی کھلیلوں کے ذریعے ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو قوت میں اضافہ کا موجب ہے اور اس سے آدمی میدان جہاد کے لئے تیار ہو جاتا ہے، یہ کھلیل اسی قبیل کے ہیں، دوڑ میں مقابلہ، کشتی لڑنا، تیر اندازی، نیزہ چلانا، گھوڑے سواری وغیرہ“。(۱۳).

ایسی با مقصد تفریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ سے پوری طرح ثابت ہے، آپ ﷺ نے صرف اسے جائز قرار دیا ہے بلکہ اعلیٰ مقاصد کے پیش نظر اسے باعث اجر و ثواب سمجھا ہے، چنانچہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلسل جد و جہد علم و عمل، خشیت خداوندی، ذکر و فکر الہی، جہاد و تبلیغ اور حسن عبادات سے آراستہ نظر آتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں با مقصد کھلیل اور وقتاً فوقتاً تفریح کی مثالیں بھی نظر آتی ہیں، مثلاً: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں پر گزر ہوا جو مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور کھلیل میں مشغول تھے، پس آپ ﷺ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کے درمیان سے دیکھتی رہی اور آپ ﷺ ان سے فرماتے رہے:

خذدوا یا بنی ارفة حتی تعلم اليهود والنصاری ان فی دیننا فسحة۔ (۱۴)

”اے حشی بچو! کھلیتے رہوتا کہ یہود و نصاریٰ کو پتا چل جائے کہ ہمارے دین میں دست ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

الهوا والعبوافانی اکرہ ان ارای فی دینکم غلظۃ. (۱۵)

”کھلیل کو دیکرو کیونکہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین میں سختی دیکھوں۔“

ترمذی وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کل شیء یلہوا به الرجل باطل الارمیہ بقوسہ وتادیہ فرسہ و ملاعبته امرائۃ فانهن من الحق (۱۶)

”آدمی کا ہر کھلیل بے کار ہے سوائے تین کے (۱) تیر اندازی کرنا، (۲) گھوڑا سدھانا (۳) اپنی بیوی کے ساتھ کھینا، کیونکہ یہ تینوں کھلیل حق میں سے ہیں (یعنی کار آمد ہیں)۔“

احادیث کی کتابوں میں اسی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے با مقصد تفريح اور کھلیل کا جواز ثابت ہوتا ہے، ایسی ہی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ملکی قاری لکھتے ہیں:

وفي معناها كل ما يعين على الحق من العلم والعمل اذا كان من الامور المباحة، كالمسابقة بالرجل

والخيل والابل، والتمشية للتتره على قصد تقوية البدن وتطريدة الدماغ. (۱۷)

”حدیث میں ذکر کردہ کھلیلوں میں ہر وہ کھلیل داخل ہے جو علم و عمل کے لئے معاون بنتا ہو اور فی نفسہ جائز کاموں میں اس کا شمار ہو، جیسا کہ پیدل دوڑ، گھر دوڑ، اونٹوں کی دوڑ، یا بدن کی تقویت اور دماغ کی دتازگی کے ارادے سے چہل تدوی وغیرہ۔“

ابن العربي حدیث مذکورہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا بقوته يدل على ان كل ما يعود بمنفعة او تدريب في مقابلة العدو، مثله كاللعب بالحراب ،

والدرق، والمسابقة على الاقدام. (۱۸)

یعنی ہر وہ کھلیل جس کا نفع یقین ہو یا دشمن کے مقابلے میں ٹریننگ کا کام دیتا ہو، جیسے نیزہ بازی، ڈھال کی مشق

یا پیدل دوڑ کا مقابلہ (وہ حدیث میں ذکر کردہ کھلیلوں کی طرح ہے)

مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

”جو کھلیل بدن کی ورزش اور تندرستی باقی رکھنے کیلئے یا کسی دوسری دینی دینی ضرورت کے لئے یا کم از کم طبیعت کی تکان دور کرنے کے لئے ہوں اور ان میں غلوٹ کیا جائے کہ انہیں کو مشغله بنا لیا جائے اور ضروری کاموں میں ان سے حرج پڑنے لگے، تو ایسے کھلیل شرعاً مباح اور دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو توثاب بھی ہے۔“ (۱۹)

علامہ خطابی مذکورہ بالا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ويدخل فى معناها ما كان من المشاقة بالسلاح والشد على الاقدام ونحوهما مما يرتابض به الإنسان  
فيتوصح بذلك بدنه ويكتوى به على مجادلة العدو (۲۰)

”حدیث میں مذکورہ با مقصد) کھلیوں کے حکم میں وہ کھلی بھی داخل ہیں جن کے ذریعہ انسان کی جسمانی و رُش  
ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعے بدن مضبوط ہو سکے اور دشمن سے مقابلہ کی قوت حاصل ہو، جیسے ہتھیاروں کا  
مقابلہ اور پیدل دوڑ وغیرہ“

بہر حال تشریح کے ایسے پروگرام جو با مقصد، صحت بخش اور تحریری ہوں، ایسے پروگرام اصحاب رسول رضی اللہ  
عنہم بھی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس قسم کی کھلیوں میں بعض اوقات شرکت کی تھی، چند  
مشائیں ملاحظہ کجھے:

#### (۱) نشانہ بازی:

اسلام کا پہلا پسندیدہ کھلیل نشانہ بازی ہے، حضور ﷺ نے کئی احادیث میں اس کے فضائل بیان کئے ہیں  
اور اس کے سیکھنے کو باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کھلیل جہاں جسم کی پھرتی، اعصاب کی چیخنگی اور نظر کی تحریری  
پیدا کرتا ہے۔ وہایہ کھلیل آڑے و قتوں میں اور خاص طور پر جہاد کے موقعہ پر کافروں کے مقابلے میں مسلمان نوجوانوں  
کے خوب کام آتا ہے۔ قرآن حکیم میں باقاعدہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے:

وَاعْدُ وَاللَّهُمَّ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (۲۱)

”اے مسلمانو! تمہارے بس میں حتی قوت ہو اسے کافروں کے لئے تیار کرو“  
مسلم شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس ”قوت“ کی تفسیر ”رمی“ سے کی ہے۔ آپ ﷺ  
نے تین مرتبہ فرمایا:

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيُّ (۲۲)

”خبر در قوت پھینکنا ہے، بے شک قوت پھینکنا ہے، بلاشبہ قوت پھینکنا ہے“  
اس پھنکنے میں جس طرح تیر کا پھینکنا داخل ہے، اسی طرح اس لفظ میں گولی نشانہ پر پھینکنا، راکٹ، هیزائل، بم کو  
ٹھیک ٹھیک نشانہ تک پہنچانا بھی داخل ہے اور ان میں سے ہر ایک کی مشق جہاں جسم اور اعصاب کی ریاضت ہے وہاں  
باعث اجر و ثواب بھی ہے، جیسا کہ محمد بن اسماعیل الصحاوی لکھتے ہیں:

ويشمل الرمي بالبنادق للمشاركين والبغاء ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لأن الاعداد انما يكون

مع الاعتقاد، اذ من لم يحسن الرسم لا يسمى بعد اللقبة (۲۳)

”رمی کا لفظ مشرکین اور باغیوں کے خلاف بندوقیں چلانے کو بھی شامل ہے، حدیث سے تیر اندازی اور بندوق چلانے کی تربیت اور مشق کی مشروعت بھی اخذ ہوتی ہے، اس لئے کہ تیر اندازی کی مہارت نہیں ہوگی تو اس کے متعلق نہیں کہا جاسکے گا کہ اس نے طاقت اور قوت تیار کر لی ہے“

اسی طرح ثانیہ بازی (تیر اندازی) کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

منْ عَلِيمَ الرَّمِيْ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلِيسَا مَنَا أَوْقَدَ عَصَىً . (۲۴)

”جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے (یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہے) یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی؛“

اسی طرح ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپؐ نے تیر اندازی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَفْرٍ مِّنَ الْأَسْلَمِ يَنْتَصِلُونَ بِالْمَارِكَةِ فَقَالَ إِرْمَوْبَيْلُ بْنُ الْأَسْمَعِ فَإِنَّ أَبَاكَمَ كَانَ رَأِيَّاً لِمَوْاْنَامَعَ بَنِي فَلَانَ قَالَ فَأَمْسِكْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنَ بِإِرْمَوْبَيْلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُواْ كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعْهُمْ فَقَالَ إِرْمَوْبَيْلُ كُلَّكُمْ (۲۵)

”حضرت سلمہ بن اکوعؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ قبیلہ اسلام کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آپؐ نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا: کہ اے بنو اسماعیل خوب تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ بہت اچھا تیر انداز تھا، تیر اندازی کرو اور میں اس بارے میں فلاں کا ساتھی ہوں، اس پر تیر اندازی کرنے والا ایک فریق رک گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ رک گئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح تیر اندازی کریں جب کہ آپؐ ایک دوسرے فریق کے ساتھی ہوں، اس پر آپؐ نے فرمایا کہ اچھا میں تم سب کے ساتھ ہوں تم لوگ تیر اندازی کرو۔“

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان کی مشق کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا شرعاً ضروری ہے، کیونکہ ان سے ایک تو انسان کے جسم کی مشق ہوتی ہے دوسرے جہاد کے لئے تیاری ہوتی ہے، پھر جو کوئی ان ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ان کا استعمال ترک کر دے تو آپؐ نے اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ایسا ہے کہ گواں نے دین اسلام کو ترک کر دیا ہو۔

(۲) پیدل دوڑ:

اپنی صحت و قوت کے مطابق ہلکی یا تیز دوڑ وہ بہترین جسمانی ورزش ہے، جس کی افادیت پر سارے اطباء

اور ڈاکٹر متفق ہیں، پیدل دوڑ سے سستی، کامی بی دوڑ ہونے کے علاوہ جسم قوی اور مضبوط ہوتا ہے اور آدمی جہاد و عبادت اور خدمتِ خلق کے لئے تیار ہوتا ہے، نیز اس سے مصنوعی وقارٹوٹ کر مسلمان کی طبیعت میں فرحت اور کشادہ دلی پیدا ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؐ بھی اس پر عمل کرنے میں نصیحت کرتے تھے۔

ارشادِ خداوندی ہے:

﴿فَالْوَيَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نُسْتَبِقُ﴾ (۲۶)

”(اور جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے رونے کا سبب پوچھا تو) کہنے لگے ابا! ہم سب تو آپس میں دوڑ لگانے میں لگ گئے“.

آیت مذکورہ سے فقهاء و مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ پیدل دوڑ میں باہمی مقابلہ اور مسابقتِ جائز ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

فی مشروعۃ المسابقة وفیه من الطب ریاضۃ النفس و الدواب و تمرین الاعضاء علی التصرف۔ (۲۷)  
”اس آیت میں مسابقت کا جواز موجود ہے، اور اس مسابقت سے طبی نکلنے نظر سے جسمانی ورزش، جانوروں کی تربیت اور اعضاء پر کنٹرول حاصل کرنے کی مشق ہوتی ہے۔“

ابن العربي لکھتے ہیں:

ان المسابقة شرعاً في الشرعية وخصلة بدعة، وعنون على الحرب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، فروى انه سابق عائشه فسبقهها فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته، فقال لها، هذه بتلك (۲۸) وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب وتدريب الاعضاء على التصرف، ولا مسابقة الا بين الخيل والابل خاصة۔ (۲۹)

”مسابقت شریعت میں ایک جائز طریقہ ہے اور یہ عمده طریقہ ہے، اور اس سے جنگ پر مدد ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور گھوڑے کے ذریعے بھی یہ عمل کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیدل دوڑ میں مقابلہ کیا، اور ان سے مقابلہ جیت لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سیدہ ہو گئے تو آپ ﷺ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پیدل دوڑ میں مقابلہ کیا، لیکن اس بار وہ سبقت لے گئیں۔ پس آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ دوڑ کی یہ جیت اس پہلی جیت کے برابر ہو گئی، اور اس مسابقت سے جسمانی ورزش، جانوروں کی تربیت اور اعضاء پر کنٹرول حاصل کرنے کی مشق ہوتی ہے، اور جانوروں میں سے صرف گھوڑے اور اونٹ میں مسابقت کرانا جائز ہے۔“

ابن العربي کی نقل کردہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان پیدل دوڑ مقابلے کا ذکر ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس مقابلے میں حصہ لیتے تھے، اسی طرح امام مسلم کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تک دوڑ لگائی تھی، جسے انہوں نے جیت لیا تھا۔ (۳۰)

اسی سلمہ بن اکوع "جن کی دوڑ ضرب المثل تھی، اس کا مشہور واقعہ احادیث کی کتابوں میں درج ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لیلوں کے ایک گروہ نے مدینہ منورہ سے چار پانچ میل دور غائب نام کی جگہ سے رسول اللہ ﷺ کے کچھ اونٹ لوٹ لئے، چنانے والے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل پڑے، یہ شیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے، سلمہ بن اکوع تیرکمان لئے ہوئے پیدل غائب کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی نگاہ ان ڈاکوؤں پر پڑی۔ انہوں نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ کی جانب منہ کر کے ڈاکہ پڑنے کا اعلان کیا اور خود اکیلے تیرکمان سنپھال کر ان کے پاس پہنچ کر تیر اندازی شروع کر دی اور اتنی پھرتی کے ساتھ مسلسل تیر مارتے رہے کہ لیلوں نے سمجھا کہ کوئی بڑی جماعت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، چنانچہ وہ بھاگ گئے اور لوٹے ہوئے سارے اونٹ سلمہ نے چھڑا لئے۔ سلمہ کا یہ کارنامہ ان کی دوڑ کی مشق کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اور نہ ڈاکوؤں کے پاس گھوڑے تھے اور یہ پیدل تھا۔ (۳۱)

ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ دوڑ نے کا مقابلہ ایک صحت مند تفترع ہے، جس کی ضرورت جہاد کے میدان میں بھی پڑتی ہے اور یہ جسمانی ورزش بھی ہے، اس لئے مردوں اور ذو حرم عورتوں کے درمیان اور اسی طرح مردوں کا آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنا جائز ہے اور ایسا کرنا وقار اور بزرگی کے خلاف نہیں۔

### (۳) کشتی کا مقابلہ:

کشتی میں ایک دوسرے کو بچھاؤنے کا مقابلہ بھی ایک تفترع اور صحت مند کھیل ہے اور دو رہنمی میں رانج تھا، خود رسول اللہ ﷺ نے اس کھیل میں حصہ لیا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت سے ثابت ہے:

عن محمد بن علی بن رکانہ ان رکانۃ صارع النبی ﷺ فصرعہ النبی ﷺ (۳۲)

"محمد بن علی بن رکانہ سے روایت ہے کہ رکانہ نے رسول اللہ ﷺ سے کشتی لڑی تھی اور آپ نے اسے بچھاڑ دیا تھا۔"

## (۴) تیرا کی مشق:

تیرنے کی مشق بھی بہترین جسمانی ورزش ہے، اس سے جہاں جسمانی قویٰ خصوصیت ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت دوسروں کی جان بچانے میں اس سے کام لیا جاسکتا ہے، وہیں جہاد کی تربیت کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ میں ندی، تیز پیارا نالے، دریا عبور کرنا قدر تی امر ہے اور آج کی جنگ میں سمندری ناکوں کو دفاعی نقطی نظر سے بیادی اہمیت حاصل ہے، اس لئے ایک مسلم نوجون کے لئے تیرا کی جہاں تفریغ طبع اور جسمانی ورزش کا عمدہ ذریعہ ہے، وہاں یہ کھیل بوقت ضرورت اپنی اور دوسروں کی جان بچانے اور آئندہ جہاد کی بہترین تیاری بھی ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

خیر لھو المؤمن السباحة وخير لھو المرأة المغزل (۳۳)

”مؤمن کا بہترین کھیل تیرا کی ہے اور عورت کا بہترین کھیل سوت کاتنا ہے“

## (۵) اچھے شعر سننا اور سنانا:

فرصت کے لحاظ میں (مثلاً سفر وغیرہ میں) اگر اچھے اشعار کے ذریعے تفریغ طبع حاصل کی جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت شریفؓ سے روایت کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سواری پر بیٹھا چلا جا رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”کیا تمہیں امیہ بن ابی ا لصلت کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا! سناؤ، میں نے ایک شعر سنایا، آپ نے فرمایا! ”اوہ“ میں نے ایک اور شعر سنایا، آپ نے فرمایا! ”اوہ کچھ“ یہاں تک کہ اسی طرح میں نے آپ کو شعر سنائے۔ (۳۴)

## (۶) گھوڑے سواری:

اسلام کا ایک اور پسندیدہ کھیل گھر سواری ہے، جو جہاد میں کام آسکے، یہ کھیل ایسا ہے کہ اس میں جسم کی پوری ورزش کے ساتھ انسان میں مہارت، ہمت و جرأۃ اور بلند حوصلگی جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں اور وقت پڑنے پر یہ کھیل جہاد اور سفر میں خوب کام آتا ہے، گھر دوڑ میں مہارت پیدا کرنے کی غرض سے رسول اللہ ﷺ نے صرف یہ کہ گھوڑہ دوڑ کی اجازت دی تھی بلکہ اپنی نگرانی میں اس کے مقابلے بھی کروائے تھے، جیسا کہ درج ذیل روایت سے ثابت ہے:

عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بالخيل التي قد اضمرت من الحفباء و كان امدها ثنية الوداع و سابق بين الخيل التي لم تصمر من الشنيعة الى مسجدبني زريق وكان ابن عمر رضي الله عنه فيمن سابق بها. (۳۵)

”عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کے درمیان مسابقت کرائی جو اضمار کئے گئے تھے اور یہ مسابقت حفیاء سے شروع ہوئی اور شدید الوداع پر ختم ہوئی، اور جن گھوڑوں کا اختصار نہیں کیا گیا، ان کے درمیان شدید الوداع سے مسجد نبی زرین تک مسابقت کرائی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسابقت کرنے والوں میں شامل تھے：“

حدیث میں ”اضمار“ کا ذکر ہے، اضمار اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو گھوڑے کو خوب گھاس دانہ کھلا پلا کر بہت قویٰ اور فربہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا گھاس دانہ بتدریج کم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اصل خوراک پر لے آتے ہیں اور پھر اس کو ایک مکان میں بند کر کے اس پر گرم جھوول ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور پسینے چھوڑتا ہے اور جب پسینہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ گھوڑا سبک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا گوشت تو ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن دوڑنے میں قویٰ رہتا ہے۔ (۳۶)

اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے:

ان النبي ﷺ قال له ياعلى قد جعلت اليك هذه السبقة بين الناس ،فخرج على <sup>رض</sup> قد عسراقة بن مالك فقال : ياسراقة انى قد جعلت اليك ماجعل النبي ﷺ في عنقى من هذه السبقة فاذاتيت الميطان فصف الخيل ثم نادثلا ثا هل من مصلح للجام او حامل لغلام او طارح لجل فاذا لم يجبك احد فكبثلا ثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من خلقه فكان على <sup>رض</sup> يقعد عند منتهي الغاية ويخط خططا يقيم رجلين متقابلين عند طرف فالخط طرفه بين ابهامى ارجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول لهمما اذاخرج احد الفرسين على صاحبه بطرف اذنيه او اذن او اعتدار ،فاجعلو السبقة له ،فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين - (٣٧)

”ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے گھوڑوں کے درمیان دوڑ کرنے کا معاملہ انہیں سونا، حضرت علیؓ نے اس گھوڑ دوڑ کی تگرانی کے لئے حضرت سراقة بن مالک ”کو بلایا، انہوں نے اس سے کہا کہ دراصل یہ کام میرے پس در رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا تو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، پس جب تم اس جگہ پہنچو کہ جہاں سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو گھوڑوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دینا پھر گھوڑوں کے مالکوں کو پکار کر کہنا کہ وہ گھوڑوں کی لگائیں ان کو سواروں اور دسرے سامان ان پر پڑی ہوئی جلوں کو ٹھیک کر لیں، جب ان میں سے کوئی بھی ان کے خلاف کوئی اعتراض نہ کرے تو پھر تین دفعہ اللہ اکبر کہنا، پھر تیسرا دفعہ یکسر کہنے کے بعد ان گھوڑوں کو دوڑ نے کے لئے چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس دوڑ میں کامیاب کرے گا، حضرت علیؓ خود اس جگہ پر بیٹھتے تھے کہ جہاں دوڑ ختم ہوتی تھی۔ اس جگہ پر آپ ایک لائن کھینچ لیتے تھے اور اس لائن کے دونوں کنوں پر دو آدمی کھڑے

کردئے جاتے تھے جو اس لائن پر اپنا انگوٹھا رکھتے تھے اور گھوڑے ان آدمیوں کے درمیان سے گزرتے تھے، اس بارے میں حضرت علیؓ فرمایا کرتے کہ اگر کسی گھوڑے کے دونوں یا ایک کان کا کنارہ دوسرے گھوڑے سے آگے ہو تو وہ گھوڑا جیت جائے گا اور انعام کا مستحق ہو گا، لیکن اگر اس بارے میں یہ شک ہو کہ دو گھوڑے اکٹھے آگے نکلے، تو انعام کی رقم ان میں تقسیم کر دینا۔“

**گھر سواری کی طرح اونٹ سواری اور اونٹ دوڑ بھی ایک عمدہ کھیل ہے، اونٹ دوڑ میں مسابقت درج ذیل حدیث سے ثابت ہے:**

وعن انس قالَ كَانَتْ نَاقَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَى الْعَضَبَاءُ وَكَانَتْ لَا تَسْبِقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ  
عَلَى قَعْدَهُ فَاسْتَشَدَ ذَلِكُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقَّاً عَلَى اللَّهِ  
إِنْ لَا يَرْفَعُ شَيْءًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعُهُ۔ (۳۸)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھی جس کا نام عضباء تھا اور وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، لیکن ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا اور اس کا اونٹ آگے نکل گیا، یہ بات مسلمانوں پر سخت گزری تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ایک ثابت شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز سر بلند ہوتی ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے۔“

ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑا دوڑ اور اونٹ دوڑ کے اس قسم کے مقابلوں کا مقصد یہ ہے کہ گھوڑوں اور اونٹوں کو جہاد میں استعمال کرنے اور ضرورت کے وقت ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے، اس لئے ایسی دوڑوں کو جائز بلکہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے گھوڑے اور دوسری تمام چیزیں جن سے یہ مقصد حاصل ہو تو ان کے درمیان مقابلہ جائز ہے۔

### چہاد کی چیزوں میں شرط کا مال (انعام) لینا:

شریعت اسلامیہ میں پانسہ ڈالنا اور قمار بازی سخت منوع ہے، اس کی تمام قسمیں حرام ہیں، اور مسلمانوں کے لئے اس کے تمام طور طریقوں کا سد باب کر دیا گیا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کے پاس بھٹکنے سے باز رکھا گیا ہے، تاہم گھوڑا دوڑ کے مقابلوں میں انعام مقرر کرنا یا رہا (گھوڑا دوڑ میں شرط لگانا) مباح رکھا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا سُبْقُ الْأَفْيِ نَصْلِيْ اَوْ خَفْ اَوْ حَافِرٍ۔ (۳۹)

”مسابقت کی شرط کا مال لینا تین چیزوں (یعنی) تیر چلانے، اونٹ دوڑانے، اور گھوڑا دوڑ میں جائز ہے۔“

”سبق“ شرط کی رقم کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو آگے بڑھ جانے کی شرط جیتنے والے کو دیا جاتا ہے، اس حدیث سے ظاہر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسابقت یعنی آگے بڑھ جانے کی بازی لگانا اور اس کا مال لینا جائز نہیں ہے، لیکن فقہاء نے ان تینوں کے حکم میں ان چیزوں کو بھی شامل کیا ہے جو جہاد کا سامان و ذریعہ ہیں جیسے گدھا، خچر، ہاتھی وغیرہ۔ بعض حضرات نے پیدل دوڑنے اور بعض نے پتھر پھینکنے اور اسی طرح جدید اسلوحت سے نشانہ بازی میں مسابقت کو جواز کے حکم میں شامل کیا ہے۔

جو چیزیں جہاد کے ذرائع میں شامل ہیں ان کی مسابقت میں شرط باندھنا اور بازی لگانا اور شرط کی رقم لینا دراصل جہاد کی ترغیب دینے کے پیش نظر ہوتا ہے، اور اسی لئے اس کے جواز کا حکم بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جواز چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ مثلاً: یہ کہ مسابقت کے مقابلے میں کسی مال یا رقم کی شرط، امیر و حاکم یا تیرے شخص کی طرف سے باندھی جائے، یا یہ کہ فریقین مقابلے میں سے صرف ایک جانب سے مال پیش کیا گیا ہو، بایں طور کہ ان میں سے ایک فریق یہ کہے کہ اگر تم سبقت لے گئے تو اس قدر تم کو دونوں گا اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ (۴۰)

اگر مقابلہ کرنے والے فریقین میں سے ہر ایک کی طرف سے مال شرط پر لگایا جائے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ جواہر جائے گا۔ البتہ اگر مقابلے میں کوئی تیرا فریق اپنا گھوڑا شامل کر دے جسے ” محلل“ کہتے ہیں تو یہ صورت بھی جائز ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے، ارشادِ نبوی ہے:

منْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَانْ كَانَ يَوْمَنَ ان يسبقَ فَلَا خَيْرٌ فِيهِ فَانْ كَانَ لَا يَوْمَنَ ان يسبقَ فَلَا بَاسٌ بِهِ۔

(۴۱)

”جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلانی نہیں ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں مضائقہ نہیں“؛

اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مذکورہ صورت کے جائز ہونے کی دو شرطیں بیان کی ہیں: اول یہ کہ محلل کا گھوڑا ان دونوں کے ہم پلہ ہو، بایں طور کہ اس گھوڑے کے سبقت لے جانے کا امکان سمجھا جائے، دوسرا یہ کہ مقابلہ کرنے والے مان لیں کہ اگر ” محلل“، جیت جائے گا تو ان دونوں کا شرط پر لگایا ہو اماں اس کا حق ہو گا، اور اگر وہ دونوں جیت جائیں گے تو ” محلل“، سے کچھ نہ لیں گے، البتہ ان دونوں میں سے جو بازی سے جائے گا وہ دوسرا کا لگایا مال لے گا، بس اگر محلل جیت گیا تو دونوں کا داو پر لگایا ہو اماں لے جائے گا، اور اگر ہار گیا تو ان دونوں کو

کچھ نہ دے گا۔ ہاں اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر سبقت لے گیا تو دوسرے کا لگایا ہوا مال لے لے گا (۲۲)

محض روایہ کہ گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں صرف تین صورتوں میں انعام مقرر کیا جاسکتا ہے: (۱) انعام کی رقم ایر، حاکم یا تیسرے فرد کی طرف سے رکھی جائے (۲) دوسری صورت یہ کہ فریقین مقابلہ میں سے صرف ایک جانب سے انعام کی رقم پیش کی گئی ہو، (۳) اور تیسرا صورت یہ کہ مقابلے میں کوئی تیسرا " محلل" شامل ہو جائے پس مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ آپس میں ہار جیت کی کوئی رقم بطور شرط مذہب انا جوا اور قمار ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، آج کل جتنی صورتیں گھوڑ دوڑ کی رانج ہیں وہ کوئی بھی جوئے اور قمار سے خالی نہیں اس لئے سب حرام و ناجائز ہیں۔

یہ تو چند وہ کھیل تھے جن کا احادیث و آثار میں باقاعدہ ذکر آیا ہے، حدود شرعیہ کو قائم رکھتے ہوئے ان کھیلوں کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، ان کے علاوہ دور حاضر میں جو مشہور کھیل مروج ہیں، ان میں کرکٹ، ہاکی، فٹبال، والی بال، لان ٹینس، بیڈ منشن اور ٹیبل ٹینس وغیرہ شامل ہیں، ان میں سوائے کرکٹ کے باقی وہ کھیل ہیں جن میں پیسہ اور وقت کا خرچ نسبتاً کم ہے، ان کھیلوں میں جسمانی ورزش بھی اچھی ہوتی ہے اور کھیل میں شامل تمام کھلاڑی بالعموم یکساں طور پر محظوظ ہوتے ہیں۔

#### تفہیمات کی حدود و قیود:

اسلام کی رو سے ہنی و جسمانی پُختی اور نشاط چونکہ پسندیدہ صفات ہیں، اسی لئے شریعت نے ان صفات کے حصول کے لئے صحیح مندرجہ اور مناسب کھیلوں کی نہ صرف اجازت دی ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، بشرطیکہ وہ غیر اخلاقی آلاتوں سے پاک ہوں، بقدر ضرورت ہوں اور عبادات اور فرائض شرعیہ سے غافل کرنے والے نہ ہوں، یہ شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز کے ساتھ جب ضرر رہا چیزوں کی ملاوٹ ہو جائے تو نیچے نقصان اور ضرر کی شکل میں نکلتا ہے، مثلاً کھانا ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو صحیح درست ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جائز اور منید کھیل و فریج کے ساتھ اگر جوئے، موسقی اور دوسرے فنون پر ڈرام کی آمیزش کر دی جائے تو یہ متعدد روحانی، فیضیاتی اور اخلاقی بیماریوں کا سوجب بن جاتی ہے، یا جوانوں کو ان جائز کھیلوں کا اس طرح رسیا اور عادی بنا دیا جائے کہ ان کو نہ نماز روزہ یاد رہے اور نہ دعوت و جہاد کا فرض یاد رہے، بلکہ کھیل ہی اس کی زندگی کا مقصد بن جائے اور اس تھیس سے اچھا کھلاڑی بننا اور یہیں الاؤامی کھیلوں میں نہایاں کارگردگی کا مظاہرہ ہی اس کا اصل

ہدف بن جائے تو ایسی کھیلوں سے اچھے سے اچھے کھلاڑی تو تیار ہوتے رہیں گے، لیکن اچھے مسلمان اور جذبہ جہاد سے سرشار نوجوان تیار نہیں ہو سکیں گے۔ (۲۳)

شریعت کا اصول یہ ہے عادات و معاملات میں سے جس چیز کی ممانعت موجود نہ ہو وہ جائز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی جائز اور مباح چیز فساد و بگاث اور معصیت و گناہ کا ذریعہ ثابت ہو رہی ہو تو وہ فی نفسہ جائز ہونے کے باوجود ذریعہ معصیت ہونے کی وجہ سے منوع ہو جاتی ہے، اس لئے فقهاء نے جائز تفریحات کے لئے بھی کچھ حدود و قیود کی نشاندہی کی ہے، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

۱۔ کھیل کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جس سے گرد و نواح میں کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندر یشناہ ہو۔

۲۔ خود کھینچنے والے کو اس کے ساتھ شرکاء میں سے کسی کوئی قسم کے جسمانی یا مالی نقصان پہنچنے کا اندر یشناہ ہو۔

۳۔ نمازوں کے اوقات میں نہ ہو، یعنی نماز کے نظام میں کوئی خلل نہ آئے۔

۴۔ دوران کھیل ستر کھلا ہوانہ ہو۔

۵۔ گالی گلوچ نہ ہو۔

۶۔ کوئی ایسا مقابله نہ ہو کہ ہار جیت کی صورت میں مال دینے کی شرط ہو۔

۷۔ اس میں ایسا انہاک نہ ہو کہ اس کو مستقل پیشہ کے طور پر اختیار کر لے کہ اس کو پھر کھلاڑی کے نام سے یاد کیا جانے لگے۔

۸۔ اس میں ورزش کا مفہوم ہی غالب ہو، لہو و لہب اور تمثاش کا پہلو غالب نہ ہو۔ (۲۴)

### ممنوع تفریحات:

اسلامی تعلیمات میں جس طرح صحت مند تفریق اور با مقصد کھیل کی اجازت موجود ہے، اسی طرح لہو و لعب اور لغو کی ممانعت بھی مذکور ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَتَّرِى لَهُوَ الْخَدِيثُ لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ (۴۵)

”اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ اللہ کے راستے سے بے سوچ سمجھے گراہ کریں اور اس کی بھی اڑائیں ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔“

اسی طرح ارشاد نبوی ہے:

من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیه۔ (۴۶)

”لیئنی آدمی کے اپنے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی امور ترک کر دے۔“

یہ لا یعنی امور وہ ہیں جنہیں آیات و احادیث میں لہو، لعب اور لغو کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، لہو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو قابل توجہ اہم امور سے غافل کر دے (۲۷) لعب ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو بلا کسی مقصد صحیح کے انعام دیا جائے (۲۸) اور المفوہ ہر کمی (فضول) بات اور ہر نکتے (فضول) فعل کو کہا جاتا ہے، جس میں گانا با جاراگ رنگ وغیرہ بے کار باتیں شامل ہیں۔ (۲۹)

اسی طرح شریعت نے جن کھلیوں سے سختی سے منع کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) نرد چوسر (۲) شطرنج (۳) کبوتر بازی (۴) مرغ بازی اور دیگر جانوروں کو لڑانا (۵) پنگ بازی، (۶) تاش کھلانا (۷) وڈیو گیمز (۸) تصویر کشی (اگر خاص ضرورت کے تحت نہ ہو) (۹) گانان سننا (۱۰) فلم، فٹی اور ویدیو کے ذریعے فوٹش اور بے ہودہ پروگرامز دیکھنا وغیرہ۔

اس کے علاوہ جو کھلیل کسی حرام و معصیت پر مشتمل ہوں وہ اس محضیت یا حرام کی وجہ سے ناجائز ہوں گے اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں مثلاً: کسی کھلیل میں ستر کھولا جائے یا اس کھلیل میں جو اکھیلا جا رہا ہو، یا اس میں مردوزن کا مخلوط اجتماع ہو، یا اس میں دیگر غیر شرعی امور کا اہتمام کیا گیا ہو، اسی طرح جو کھلیل فرائض اور حقوق واجبہ سے غافل کرنے والے ہوں، وہ بھی ناجائز ہوں گے، علاوہ ازین جس کھلیل کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد محض وقت گزاری کے لئے کھلیلا جائے وہ بھی ناجائز ہو گا۔ (۵۰)

## حوالہ جات و حواشی

- ۱ الراغب الاصفهانی ، ابونقasm الحسین بن محمد بن المفضل ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، میر محمد کتب خانہ ، کراچی ۲۸۹۰:۲ -
- ۲ ابی عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی ، الجامع لاحکام القرآن ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۶۵ء : ۳۵۴ -
- ۳ القصص ، ۷۶:۲۸ -
- ۴ یونس ، ۵۸:۱۰ -
- ۵ مولانا گوہر رحمٰن ، تفہیم المسائل ، مردان ، مکتبہ تفہیم القرآن ، ۲۰۰۲ء ، ۵:۲۹۹ -
- ۶ یوسف القرضاوی ، الحلال والحرام فی الاسلام ، (اردو ترجمہ ، مترجم شمس پیرزادہ ) دارالمعارف بمیشی ۱۹۹۳ء : ۳۶۸ -
- ۷ سورۃ یوسف ، ۱۱:۱۲ -
- ۸ بلند شهری ، عاشق الہی ، انوار البیان فی کشف اسرار القرآن ، ملتان ، ادارہ تالیفات اشرفیہ ، ۱۹۹۴ء : ۷۹:۵ -
- ۹ جصاص ، ابی بکر احمد بن علی الرازی ، احکام القرآن ، لاہور ، سہیل اکیڈمی ، ۱۹۹۱ء : ۳:۱۶۸ -
- ۱۰ امام رازی ، فخر الدین محمد بن عمر ، بن حسین ، مفاتیح الغیب الشہیر بالتفسیر الكبير ، دارالطباعة العامرة ، ۱۰۹:۵ -
- ۱۱ بخاری ، کتاب النکاح ، باب التزویج الشیبات ، دارالسلام ریاض ، الطبعۃ الاولی ۱۹۹۹ء ، حدیث نمبر: ۵۰۷۹ -
- ۱۲ تھانوی ، اشرف علی ، تفسیر بیان القرآن ، کراچی ، بیچ ایم سعید کمپنی ، ۷۱:۵ -
- ۱۳ یوسف القرضاوی ، الحلال والحرام فی الاسلام ، المکتب الاسلامی ، بار پنجم ، ۱۹۶۹ء ، ص: ۳۷۱ -
- ۱۴ علی المتقی بن حسام الدین الہندی ، کنز العمال ، بیروت ، موسسه الرسالہ ، بار پنجم ، ۸۵ء کتاب اللہو ، حدیث نمبر: ۴۰۶۱۷ -
- ۱۵ احمد بن الحسین البیهقی ، شعب الایمان ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ۱۹۹۰ء ، باب فی تحريم الملاعب والملامحی حدیث نمبر: ۲۴۷:۵ ، ۶۵۴۲ -

- ١٦ سنن ترمذى، أبواب الجهاد، باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله ، دارالسلام رياض ، الطبعة الاولى ١٩٩٩ء، حديث نمبر: ١٦٣٧
- ١٧ ملا على قارى، مرقة المفاتيح شرح مشكوة المصايح، كتاب الجهاد، الفصل الثاني ، ٤٣١: ٧
- ١٨ محمد بن عبد الله ابن العربي، عارضة الاحدوى، بشرح مع الترمذى، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٥ء، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله ، ١٢٣: ٤
- ١٩ مفتى محمد شفيع، تفسير معارف القرآن، كراجى، ادارة المعارف ١٩٧٩ء، ٢٣: ٧
- ٢٠ ابى سليمان محمد بن محمد الخطابى، معلم السنن شرح سنن ابى داؤد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩١ء، كتاب الجهاد، باب الرمى، ٢٠٩: ٢
- ٢١ الانفال، ٦٠: ٩
- ٢٢ مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الرمى والتحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، دارالسلام رياض ، الطبعة الاولى ١٩٩٩ء، حديث نمبر: ٤٩٤٦
- ٢٣ سيد محمد بن اسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، كتاب الجهاد ، باب فى السبق والرمى - ٧٢، ٧١: ٤
- ٢٤ مسلم: كتاب الامارة، باب فضل الرمى والتحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، دارالسلام رياض ، الطبعة الاولى ١٩٩٩ء، حديث نمبر: ٤٩٤٩
- ٢٥ الشوكاني، قاضى محمد بن على بن محمد، نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار ، كتاب الجهاد والسير، ابواب السبق والرمى ، باب الحث على الرمى، ٢٤٥: ٨
- ٢٦ سورة يوسف، ١٧: ١٢
- ٢٧ سيوطى، حافظ جلال الدين، عبدالرحمن بن ابى بكر ، الاكليل فى استنباط التنزيل ، كوثيئه ، مكتبه اسلامية ١٤٠٣هـ، ص: ١٣٠
- ٢٨ سنن ابى داؤد میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے:
- عن عائشہ رضی اللہ عنہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسابقته فسبقتہ علی رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى فقال هذه بتلك السبقة، كتاب الجهاد، باب فى السبق على الرجل، دارالسلام رياض ، الطبعة الاولى ١٩٩٩ء، حديث نمبر: ٢٥٧٨
- ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل دوڑ کا

مقابلہ کیا تو وہ اس دوڑ کو جیت گئیں، پھر مدت گزر گئی تو ان کا جسم بخاری ہو گیا تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل دوڑ کا مقابلہ کیا تو آپ ﷺ نے یہ دوڑ جیت لی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دوڑ کی یہ جیت ان کی پہلی جیت کے برابر ہو گئی،“ روایت قدرے تفصیل کے ساتھ مجムع الکبیر للطیر انی میں بھی موجود ہے، ملاحظہ ہو! حافظ ابن القاسم سلیمان بن احمد، مکتبہ ابن تیمیہ، القاهرہ ۱۹۸۲ء، معجم الکبیر، ۴۷: ۲۳،

حدیث نمبر: ۱۲۵، ۱۲۶

ابن العربی، ابو بکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، دارالعرف، ۱۹۷۲ء، ۱۰۷۵، ۳: ۳ -۲۹

۱۰۷۶

كتاب الجهاد، باب غزوة لذى قردو وغيرها حدیث نمبر: ۴۶۷۸ -۳۰

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة ذات القرد، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء  
نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار، کتاب الجهاد والسیر، باب ماجاء فی المسابقة علی الاقدام  
والمسارعة واللعب بالحراب وغير ذلك، ۲۰۵: ۸ -۳۱

کنز العمال، کتاب اللہو واللعب والتغنى من قسم الاقوال، باب اللہو المباح، ۲۱۱: ۱۵ -۳۲

مسلم، کتاب الشعر، باب فی انشاء الاشعار وبيان اشعر الكلمة وذم الشعر، دارالسلام ریاض، الطبعۃ  
ال الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر ۵۸۸۵ -۳۳

۱۔ الصحيح البخاری، کتاب الجهاد، باب غایة السبق للخیل المضمرة، دارالسلام ریاض، الطبعۃ  
ال الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۲۸۷۰ -۳۴

الصحيح المسلم، کتاب الامارة، باب المسابقة بین الخیل وتضمیرها، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی  
۱۹۹۹ء، حدیث نمبر: ۴۸۴۳ -۳۵

النووى شرح مسلم، کتاب الامارة، باب المسابقة بین الخیل وتضمیرها، ۱۳۲: ۲ -۳۶

الدارقطنی، علی بن عمر، سنن الدارقطنی، لاہور، دارنشر الكتب الاسلامیہ، کتاب سبق بین الخیل  
۳۰۷\_۳۰۵: ۴، -۳۷

بخاری، کتاب الجهاد، ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر:  
۲۸۷۲ -۳۸

ابو داؤد، کتاب الجهاد، باب فی السبق، دارالسلام ریاض، الطبعۃ الاولی، ۱۹۹۹ء، حدیث نمبر:  
۲۵۷۴ -۳۹

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: -۴۰

مولانا عبد الله جاويش، مظاہر حق جدید شرح مشکوكة شریف، از افادات مولانا قطب الدین خان، کراچی  
، دارالاشعاعت، ۱۹۹۳ء، ۷۶۰، ۷۶۹: ۳

محیی السنۃ رکن الدین ابی محمد الحسین بن سعود ابن محمد الفرا البغوى، مصایبیح السنۃ، بیروت  
دار المعرفة، ۱۹۸۷ء، کتاب الجهاد باب اعداد الہ الجنہاد، حدیث نمبر: ۲۹۲۸  
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔

قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ۹: ۱۴۵ - ۱۴۸  
الجزیری، کتاب الفقه علی المذاہب الاربیعہ، بیروت، دارالفکر، ۱۹۸۶ء، کتاب الخطرو الاباحة،  
باب مبحث المسابقة بالخيل وغيرها، ۲: ۴۷ - ۵۱

وهبة الزحلی، التفسیر المنیری العقیدہ والشریعة والمنهج، دمشق، دارالفکر، ۱۹۹۸ء، ۱۲: ۲۲۴ - ۲۲۶

شوکانی، نیل الاوطار، کتاب الجهاد والسیر، ابواب السبق والرمی، ۸: ۲۳۸ - ۲۴۵  
ابو الليث سمرقندی، بستان العارفین، علی هامش تنبیہ الغافلین، مصر، المکتبۃ الشجاریۃ الکبری، ص:  
۱۹۲، ۱۹۳

مولانا گوہر الرحمن، تفہیم المسائل، ۵: ۳۰۰ - ۳۰۰

احسان اللہ شاہق، جدید معاملات کے شرعی احکام، دارالاشعاعت کراچی، ۱۰۳: ۱، ۲۰۰۲ء - ۳۲۲  
سورہ لقمان، ۳۱: ۴

ترمذی، ابواب الزهد، باب حدیث من حسن اسلام المرأة تركه مالا یعنیه، حدیث نمبر: ۳۱۸  
راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ۲: ۴۷۵ - ۴۷۵

ایضاً: ۲: ۴۷۱ - ۴۷۱

القرطبی، الجامع احکام القرآن، ۱۳: ۸۰ - ۸۰  
هزیر تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مفتی محمد شفیع، احکام القرآن، ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ  
، الطبعة الثالثة، ۱۸۶: ۳، ۵۱۴۱۸، ۲۰۲ - ۱۸۶

یوسف قرضانوی، الحلال والحرام فی الاسلام، ص: ۳۷۶ - ۳۸۸

شوکانی، نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار، کتاب الجهاد والسیر، باب ما جاء فی الہ اللھو،  
۸: ۲۶۰ - ۲۷۱